

برائے فوری اجراء

برامپٹن زیادہ قابل استحکام رہائشی علاقے بنا رہا ہے

برامپٹن، آن (17 فروری 2021) – آج، برامپٹن سٹی کونسل نے برامیلا کے E،K اور F حصوں کے لیے برامیلا سسٹین ایبل نیبرہڈ ایکشن پلان (SNAP) کی منظوری دے دی۔

برامیلا SNAP E،K اور F حصوں کے لیے اقدامات کے ایک تسلسل کی سفارش کرتا ہے، جس کا مقصد ایکو جگہوں اور ماحول دوست انفراسٹرکچر کے ایک مربوط نظام، نقل و حمل کے ایک محفوظ اور فعال نیٹ ورک، کمیونٹی کے اور نجی باغوں کے ساتھ مقامی خوراک کا ایک صحت بخش نظام، گھروں اور عمارتوں میں توانائی کی بچت، کاروباروں اور اداروں کی جگہوں کے لیے ماحول دوست اقدامات اور کمیونٹی میں لچک لانا ہے۔

SNAPs سٹی کے کمیونٹی انرجی اینڈ ایمشنز ریڈکشن پلان (CEERP) کو فروغ دیتے ہیں۔ CEERP ایک منصوبہ کار بناتا ہے، جو گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی لائے گا، معاشی بہتری لائے گا، توانائی کی سیکورٹی کو یقینی بنائے گا اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف برامپٹن کی لچک کو بڑھائے گا۔

ایکشن پلان کی پوری رپورٹ [یہاں](#) دستیاب ہے۔

پس منظر

سسٹین ایبل نیبرہڈ ایکشن قابل استحکام شہری تجدید اور موسمیاتی اقدامات کے لیے ایک پر جدت اور پر اشتراک ماڈل ہے، جو رہائشی علاقوں کے درجے پر مرکوز ہے۔ مخصوص رہائشی علاقوں کے لیے انفرادی طور پر بنائے گئے ایکشن پلان کی رہنمائی میں، یہ پلان میونسپل کی استحکامیت کی ترجیحات کو کمیونٹی کی ضروریات کے ساتھ ہموار کرتا ہے، منضم ریٹرو فٹ سلیوشنز کی شناخت کرتا ہے اور سرکاری ایجنسیوں، کمیونٹی تنظیموں، کاروباروں اور رہائشیوں کے درمیان شراکت داریوں کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں SNAPs پروگرام کی بچت کو ممکن بنانے، رہائشیوں کو طاقت فراہم کرنے اور جدت ظاہر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

ابتدائی طور پر ٹورانٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی (TRCA) کی جانب سے تیار کردہ، اونٹاریو میں ایک درجن سے زائد SNAPs موجود ہیں، جن میں سے تین اب برامپٹن میں واقع ہیں - برامیلا SNAP، کاؤنٹی کورٹ SNAP اور فلیچرز کریک SNAP۔

لنکس

- [سسٹین ایبل نیبرہڈ ایکشن پلانز \(SNAPs\)](#)
- [برامیلا SNAP](#)
- [کاؤنٹی کورٹ SNAP](#)
- [فلیچرز کریک SNAP](#)
- [کمیونٹی انرجی اینڈ ایمشنز ریڈکشن پلان \(CEERP\)](#)

اقتباسات

"برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور موسمیاتی تبدیلی پر حقیقی اثر ڈالنے اور اپنے رہائشیوں کو ایک زیادہ ماحول دوست طرز زندگی کی حوصلہ افزائی دینے کے لیے زیادہ قابل استحکام رہائشی علاقے بنا رہا ہے۔ ہم برامیلا SNAP کے ذریعے برامیلا کے E،K اور F حصوں میں قابل استحکام تبدیلی لانے کے لیے ٹورانٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی، ریجن آف پیل اور بیلڈی کمیونٹیز انیشیٹیو میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن SNAP عالمی موسمیاتی تبدیلی میں ہمارے کردار کو کم کرنے اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے ہمارے کمیونٹی انرجی اینڈ ایمپلائمنٹ ریٹیکشن پلان کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم برامپٹن میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 2050 تک 80 فیصد کم کرنے کے سفر پر ہیں۔"

- پال ویسیٹھے، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینیئرنگ؛ ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن SNAP وارڈز 7 اور 8 کے لیے استحکامیت کے حصول میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ایکشن پلان کمیونٹی کی ضروریات کی عکاسی کے لیے ہماری کمیونٹی اور اہم فریقین کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیا گیا تھا۔ کمیونٹی کے ساتھ رابطہ اس منصوبے کے لیے راستے کے ہر قدم پر ایک ترجیح ہے۔"

- شامین ولیمز، سٹی کونسلر، وارڈز 7 اور 8، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن 1960s میں کینیڈا کے پہلے سیٹلائٹ شہر کے طور پر برامپٹن میں ایک منفرد تاریخ اور شناخت کا حامل ہے۔ یہ بہتریاں برامپٹن کے رہائشیوں کی خدمت کرنے اور E،K اور F حصوں کو تمام لوگوں کے لیے صحت بخش اور زیادہ قابل استحکام بنانے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔"

- پیٹ فورٹینی، وائس چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینیئرنگ؛ ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ برامپٹن SNAP کے ذریعے ایک قابل استحکام تبدیلی پیدا کرنے کے لیے وقف ہے۔ ہمارے شراکت داروں، کمیونٹی کے اراکین اور اہم فریقین کا برامپٹن کے تیسرے SNAP کی تیاری میں حصہ لینے پر شکریہ۔ ہم اس کے نفاذ کے لیے پر امید ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca